



## NYC Housing Connect کیا ہے؟

NYC Housing Connect نیویارک سٹی کے پانچوں بورو میں سستی رہائش کے مواقع تلاش کرنے اور اس کے لئے درخواست دینے کے لئے نیویارک کے باشندگان کا پورٹل ہے۔

## سستی رہائش کا کیا مطلب ہے اور کون اس کا اہل ہے؟

اگر رہائش کا خرچ آپ کی گھریلو آمدنی کا تقریباً ایک تہائی یا اس سے کم ہو تو رہائش سستی سمجھی جاتی ہے۔

نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ (Housing Preservation and Development, HPD) اور نیویارک سٹی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کارپوریشن (Housing Development Corporation, HDC) بہت سی سطحوں اور سائز کی گھریلو آمدنی والے لوگوں کے لیے سستی رہائش کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ آپ کا گھرانہ آپ کی آمدنی اور گھرانے کے سائز کی بنیاد پر اہل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے یا کوئی آمدنی ہی نہیں ہے، تو بھی آپ اہل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کے پاس ایسا کوئی واؤچر ہو جس میں آپ کا کرایہ شامل ہو سکتا ہو۔

اگر آپ معذور ہیں، سینئر ہیں، یا کسی ایسے بورو یا کمیونٹی بورڈ میں رہتے ہیں جہاں سستی رہائش موجود ہے، تو آپ کو کچھ سستی اکائیوں کے لیے ترجیح مل سکتی ہے۔

## ہم NYC Housing Connect کا نیا ورژن شروع کر رہے ہیں!

سستی رہائش کی درخواستوں کے عمل کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنانے کے لئے ہم نے آپ کے تاثرات حاصل کر کے NYC ہاؤسنگ کنیکٹ کا ایک نیا ورژن تیار کیا ہے۔

ویب سائٹ کی نئی خصوصیات میں درج ذیل شامل ہیں:

زیادہ سستی رہائش کے مواقع 

مرضی کے مطابق تلاش کے فلٹرز 

بہتر کردہ درخواست کا طریقہ 

انتخاب کا ہموار طریقہ 

موبائل کے مناسب ڈیزائن 

جولائی 2020 سے، رہائش کے تمام نئے مواقع NYC Housing Connect کی ویب سائٹ پر شائع کیے جائیں گے۔

مزید جاننے کے لیے [nyc.gov/housingconnect](https://nyc.gov/housingconnect) ملاحظہ کریں۔